

## سٹی آف برامپٹن شہریوں کی تقریروں کے لیے دعوت دیتا ہے

سٹی شہریوں پر مبنی مشاورتی کمیٹیوں، تجاویز دینے والی کمیٹیوں، ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونلز اور متعلقہ عہدوں کے لیے شہریوں کی تقریروں کے لیے دعوت دے رہا ہے

برامپٹن، آن – جو شہری اپنے شہر کی تعمیر و ترقی میں شامل ہونا چاہتے ہوں، سٹی آف برامپٹن ان سب کو مدعو کر رہا ہے۔ کونسل آف دی کارپوریشن آف سٹی آف برامپٹن اپنے 2018-2022 کی مدت، جو نومبر 2022 میں یا کسی جانشین کے منتخب ہونے تک رہے گی، کے لیے کئی عہدوں پر شہریوں کی تقریروں کے لیے درخواستیں قبول کر رہی ہے۔

سٹی کو شہریوں پر مبنی مشاورتی کمیٹیوں، تجاویز دینے والی کمیٹیوں، ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونلز اور متعلقہ عہدوں کے لیے شہریوں کی درج ذیل تقریروں کے لیے ضرورت ہے:

### شہریوں پر مبنی مشاورتی کمیٹیاں

- ایکسیسیبلٹی ایڈوائزری کمیٹی
- ایچ فرینڈلی برامپٹن ایڈوائزری کمیٹی (تین بالغان +55) اور تین 15-24 سال کی عمر کے افراد درکار ہیں)
- برامپٹن کمیونٹی سیفٹی ایڈوائزری کمیٹی (چار شہری نمائندے، شہر کے چاروں حصوں، جو ہائی وے 410 اور کوئین اسٹریٹ سے علیحدہ ہوتے ہیں، ہر ایک میں سے ایک)
- برامپٹن بیریٹیج بورڈ
- برامپٹن اسکول ٹریفک سیفٹی کونسل
- سائیکلنگ ایڈوائزری کمیٹی
- انوائرنمنٹ ایڈوائزری کمیٹی
- اسپورٹس ہال آف فیم کمیٹی

### تجاویز دینے والی کمیٹیاں، ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونلز اور دیگر عہدے

- آڈٹ کمیٹی (اقتصادی پس منظر رکھنے والے زیادہ سے زیادہ تین شہری)
- ایڈمنسٹریٹو مانیٹری پینلٹی سسٹم اسکریننگ ریویو آفیسر
- ایڈمنسٹریٹو مانیٹری پینلٹی سسٹم ہینرنگ ریویو آفیسر
- برامپٹن اپیل ٹریبیونل
- کمیٹی آف ایڈجسٹمنٹ
- الیکشن کمپلائنس آڈٹ کمیٹی (متبادل اراکین)
- پراپرٹی اسٹینڈرڈز کمیٹی

ان تقریروں کے لیے رہائشیوں کا وقت اور فعال شمولیت درکار ہے، تاکہ شہر پر بامعنی اثر پڑ سکے۔ تقریروں کے مواقع کے متعلق مزید معلومات، بشمول قابلیتیں اور ذمہ داریوں کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

ہر کمیٹی/تقرری کے لیے درخواست فارم اور قواعد و ضوابط سٹی کی ویب سائٹ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، یا برامپٹن سٹی ہال میں سٹی کلرک کے دفتر سے بھی لیے جا سکتے ہیں یا بذریعہ ڈاک معلومات بھیجے جانے کی درخواست کے ذریعے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔

مانگے جانے پر درخواستوں کے متبادل فارمیٹ بھی دستیاب ہیں۔

درخواست فارم بروز جمعہ، 18 جنوری 2019 کو شام 4:30 سے پہلے سٹی کلرک کے دفتر کو بذریعہ ای میل اور بذریعہ ڈاک بھجوائے جا سکتے ہیں یا ذاتی طور پر بھی جمع کروائے جا سکتے ہیں

جن رہائشیوں کو مزید معلومات درکار ہو، وہ یہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں:

City Clerk's Office, Brampton City Hall  
2 Wellington St W, Brampton, ON L6Y 4R2  
[cityclerksoffice@brampton.ca](mailto:cityclerksoffice@brampton.ca) 905-874-2101

#### اقتباس

"ہمارے شہر میں کچھ کر کے دکھانے کی خواہش رکھنے والے برامپٹن کے رہائشیوں کو شہریوں کی کسی تقرری کے لیے درخواست دینی چاہیے۔ باخبر فیصلہ سازی صرف رہائشی مشیروں کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہریوں پر مبنی مشاورتی کمیٹیاں، تجاویز دینے والی کمیٹیاں، ایڈمنسٹریٹو ٹریبونلز اور متعلقہ عہدے برامپٹن کے لیے اتنے زیادہ اہم ہیں۔ ایک ساتھ مل کر، ہم بہت زیادہ فرق پیدا کر سکتے ہیں۔"

- میئر پیٹرک براؤن

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریٹور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

#### میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال  
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ  
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن  
سٹی آف برامپٹن

[Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca) | 905-874-3426